

بکس 1: اسٹیٹ بینک کا نظامیاتی خطرے کا سروے نویں لہر (جنوری 2022ء)

(وضاحت: یہ نتائج سروے کے جواب دہندگان کی رائے کو ظاہر کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے نقطہ نظر کی عکاسی نہیں کرتے)

اسٹیٹ بینک نے اپنا ششماہی نظامیاتی خطرے کا سروے (SRS) جنوری 2022ء میں مکمل کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ کے شرکاء سے خطرے کے حوالے سے تاثرات معلوم کیے جائیں اور مالی نظام کے استحکام پر ان کے اعتماد کو جانچا جاسکے۔ پچھلی لہروں کی طرح سروے کے بنیادی سوالات وہی رہے، تاہم کووڈ وبا کے استحکام کے بارے میں مضمرات پر شرکاء کے تاثرات جاننے کے لیے سروے کے سوالنامے کے ساتھ چھٹی لہر (جولائی 2020ء) کے بعد کچھ سوالات بھی شامل کیے گئے ہیں۔

وبائے ابھرنے والے خطرات کے علاوہ سروے میں حال اور (اگلے چھ ماہ کے دوران) مستقبل کے بارے میں خطرے کے پانچ وسیع زمروں پر شرکاء کے تاثرات معلوم کیے گئے یعنی عالمی، کلی معاشی، مالی منڈیاں، ادارہ جاتی اور عمومی۔ موجودہ لہر کے جواب دہندگان میں متنوع متعلقہ فریق شامل تھے۔⁶ موجودہ لہر میں 94 شرکاء نے حصہ لیا اور جوابات کی شرح 47 فیصد تھی۔

نتائج کا خلاصہ:

1۔ فی الوقت مجموعی طور پر جواب دہندگان ”مالی منڈیوں کے خطرات“ کے زمرے کو اہم ترین کا درجہ دیتے ہیں جس کے بعد ”مکلی کلی معاشی خطرات“ کا نمبر آتا ہے۔ یہ تاثرات اگلے چھ ماہ تک یہی رہے گا (چارٹ الف اور ب)۔ تاہم مالی منڈیوں کو خطرات کے تناظر میں شرح مبادلہ، شرح سود، اور توازن ادائیگی میں خرابی کے لحاظ سے اگلے چھ ماہ کے لیے خطرے کا تاثر کچھ معتدل رہا (چارٹ ج)۔

2۔ فی الوقت کلیدی خطرات کے لحاظ سے بلند ترین درجے کے خطرات ”اجناس کی قیمتوں میں تغیر“، ”شرح مبادلہ کا خطرہ“، اور ”توازن ادائیگی میں خرابی“ ہیں۔ اسی طرح، اگلے چھ ماہ میں کلیدی خطرات کے حوالے سے جواب دہندگان کی آرا جوں کی توں رہیں (چارٹ ج)۔

3۔ گزشتہ تین لہروں (ساتویں، آٹھویں اور نویں) کے موازنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکلی مہنگائی، شرح مبادلہ کے خطرے، توازن ادائیگی میں خرابی اور اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے حوالے سے خطرے کا تاثر معمولی سا بڑھا ہے (چارٹ ہ)۔


4۔ حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ مالی اور بینکاری نظام کے استحکام پر شرکاء کا اعتماد مستحکم رہے گا (چارٹ و)۔ جواب دہندگان نے عالمی وبا کے تناظر میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے معیشت کے لیے مجموعی پالیسی اقدامات کی اثر انگیزی پر اطمینان ظاہر کیا (چارٹ 1 اور 2)۔

5۔ سروے کی گزشتہ لہروں کی نسبت موجودہ لہر مالی صنعت پر کووڈ 19 کی وبا کے حوالے سے خطرے کا احساس بہتر ہونے کا اظہار کرتی ہے (چارٹ ز)۔


6۔ بحیثیت مجموعی، مالی استحکام پر کووڈ کی عالمی وبا کے اثرات کے بارے میں جواب دہندگان کی آرا گزشتہ لہر کے مقابلے میں فی الحال بڑی حد تک جوں کی توں رہیں۔ تاہم ان کی آرا میں وسط مدت سے طویل مدت کے درمیان معمولی سا بگاڑ آیا ہے جس کا سبب او میکرون ویرینٹ کے حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی ہے جو کہ جون 2022ء میں اپنے جو بن پر تھا جب سروے کی 9 ویں لہر جاری تھی (چارٹ ح)۔ یہ اتفاق ہے کہ کووڈ 19 پھیلاؤ اور اثرات اگلے مہینوں کے دوران نمایاں طور پر کم ہو گئے اور این سی او سی نے متعلقہ پابندیاں بھی ہٹالیں۔

⁶ جواب دہندگان میں کمرشل بینکوں، بیمہ کمپنیوں، مبادلہ کمپنیوں، مائیکرو فنانس بینکوں، ترقیاتی مالی اداروں، مالی منڈی کے اہم اداروں کے ایگزیکٹوز، مالی صحافی، تعلیمی اداروں کے ارکان، ایس ای سی پی کے حکام اور تھنک ٹینک شامل تھے۔


چارٹ ب: نظامیاتی خطرے کے اسباب کون سے ہیں - اگلے 6 ماہ کے احساسات




چارٹ الف: نظامیاتی خطرے کے اسباب کون سے ہیں - موجودہ احساسات



چارٹ د: مالی استحکام پر اعتماد کی صورت حال




چارٹ ج: بنائے گئے 10 سرفہرست خطرات



چارٹ ہ: اسٹیٹ بینک کے نظامیاتی خطرے کے سروے (ایس آر ایس) کے نتائج کا موازنہ (ساتویں، آٹھویں اور نویں لہر)



		7th Wave (Jan-21)	8th Wave (Jul-21)	9th Wave (Jan-22)			7th Wave (Jan-21)	8th Wave (Jul-21)	9th Wave (Jan-22)
		Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)			Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)
Global Risks	Slowdown in global growth	2.42	2.73	2.52	Institutional Risks	Regulatory risk	2.63	2.67	2.55
	Sovereign default risk	3.03	3.12	2.99		Legal risk	2.89	2.96	2.89
	Lack of funding from abroad	2.61	2.76	2.49		Asset quality deterioration	2.54	2.56	2.53
	Volatility in commodity prices	2.25	2.18	1.89		Shortfall in capital requirement	2.72	2.83	2.65
Macroeconomic Risks	Slowdown in domestic growth	2.26	2.51	2.22		Access to funding (deposit mobilization & borrowings)	2.92	2.82	2.82
	Increase in domestic inflation	2.19	2.33	1.99		Excessive private sector credit	2.98	2.90	2.83
	Widening fiscal deficit	2.40	2.45	2.09		Concentration risk in PSC	2.94	2.89	2.80
	Deterioration of BoP	2.58	2.48	2.11		Concentration risk in mutual fund	3.11	3.34	3.11
	Sovereign rating downgrade	2.77	2.71	2.47		Operational risk	2.77	2.74	2.70
	Slowdown in corporate sector growth	2.53	2.74	2.63		Cyber security risk	2.18	2.25	2.13
	Slowdown in infrastructure development	2.88	2.79	2.75		Disruption in financial market	2.84	2.82	2.79
	Deterioration in household savings	2.12	2.36	2.10		Terrorism	2.58	2.63	2.66
	Volatility in real estate prices	2.97	3.04	2.91		Geopolitical risk for Pakistan	2.44	2.24	2.39
	Energy crisis	2.39	2.34	2.34		Natural disasters/ Increasing threat of climate change	2.88	2.74	2.73
	Political uncertainty	2.43	2.71	2.49		Social unrest	2.71	2.93	2.79
	Financial Market Risks	Foreign exchange rate risk	2.39	2.42		1.91	General Risks		
Equity price risk		2.79	2.89	2.64					
Interest rate risk		2.62	2.72	2.18					
Liquidity risk		2.79	2.75	2.62					
		1	2	3			4	5	6
Very High		Medium				Very Low			

پارٹ 1: کوویڈ 19 کے دھچکے کے مضمرات کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے اقدامات پر ریسے دہرے مابین کا موقف



پارٹ 2: مالی صنعت کے اہم شعبوں پر کوویڈ 19 کے مکمل اثرات پر ریسے دہرے مابین کا موقف

پارٹ 3: معیشت کے لیے اسٹیٹ بینک کے اقدامات کی ڈرائنگ ریسے دہرے مابین کا موقف



پارٹ 4: کوویڈ 19 کی عالمی وبا سے پاکستان کے مالی نظام کے استحکام کی پیمائش کے امکانات - ریسے دہرے مابین کی ڈرائنگ کے ساتھ موازنہ

